

المعتل الفاء (مثال)

هُوَ مَا كَانَتْ فَؤُوه حَرْفِ عِلَّةٍ وَهُوَ كَمَا كَانَتْ حَرْفِ عِلَّةٍ. وَهُوَ كَمَا كَانَتْ حَرْفِ عِلَّةٍ. وَهُوَ كَمَا كَانَتْ حَرْفِ عِلَّةٍ.

جس فعل کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو اسے **المعتل** کہتے ہیں۔ اور کسی فعل کا فاء کلمہ اگر حروف علت (و، ی) ہو تو اسے **"مثال"** کہتے ہیں۔

(ع ل ل) المعتل سے مراد بیمار۔ **حرف علت** سے مراد بیمار حرف۔

It is the verb that has weak letter as its first radical: You have already learnt that the verb which has a weak letter in its root letters is called المعتل. The verb that has weak letter (و، ی) as its first radical is called مثال.

المعتل الفاء (مثال)

مثال یائی

مثال واوی

مثال ولوی: جس کا فاء کلمہ "واو" (و) ہو اسے مثال واوی کہتے ہیں۔ قرآن میں مثال واوی زیادہ استعمال ہوا ہے۔

The verb that has (و) as its first radical is called مثال ولوی. In Quran مثال ولوی is used more.

وَعَدَ (وعدہ کرنا) وَجَلَ (ڈرنا) وَسَمَ (خوبصورت ہونا) وغیرہ

(to be beautiful)

(to fear)

(to promise)

مثال یائی: جس فعل کا فاء کلمہ یاء (ی) ہو اسے مثال یائی کہتے ہیں مثلاً

The verb that has (ی) as its first radical is called مثال یائی.

يُقِظَ (جاگنا) يَسَّرَ (آسان ہونا) يَتِّمُّ (یتیم ہونا)

(to be an orphan)

(to be easy)

(to be awake)

مطابقت مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں؟

Why Misaal is called Misaal?

آپ جانتے ہیں کہ حرفِ علت کے باعث اکثر کلمات کو ادا کرنا آسان نہیں ہوتا اس لیے عرب علماء نے معتل کا ثقل (بوجھ) دور کرنے کے لیے کانٹ چھانٹ اور ردّ و بدل کرنے کا نام تعلیل رکھا ہے۔

مثال بھی ایک معتل فعل ہے مگر اس کے ماضی (معلوم اور مجہول) کے صیغوں میں تعلیل نہیں ہوتی۔ ان کو حرفِ علت کے ساتھ صحیح فعل کی طرح ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو مثال کہتے ہیں۔ کہ یہ صحیح کی مانند ہے۔

لیکن مزید فیہ سے ماضی کے چند صیغوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اور مثال یائی میں مثال ولوی کی نسبت کم تعلیل ہوتی ہے

You all know that because of weak letters it is not easy to pronounce many words. So Arab scholars use methods of dropping and changing to eliminate the heaviness of معتل verbs. This is called تعلیل.

مثال is a معتل verb. But there is no تعلیل for its past (active & passive) forms. They are used with the weak letters like صحیح verbs. That's why it is called مثال, means similar to صحیح.

Some past مزید فیہ forms, though, do have the changes. مثال یائی has less changes than مثال ولوی.

مثال واوی کے تعلیل کے قواعد

قاعدہ نمبر 1: مثال واوی اگر باب "ضَرْبٌ، فَتْحٌ، حَسِبٌ" سے ہو اس کے مضارع معلوم میں "واو" (فاء کلمہ) گرا دیا جاتا ہے۔

مثال واوی اگر باب "ضَرْبٌ، فَتْحٌ، حَسِبٌ" سے ہو اس کے مضارع معلوم میں "واو" (فاء کلمہ) گرا دیا جاتا ہے۔

If مثال واوی is from ضَرْبٌ، فَتْحٌ، حَسِبٌ patterns, then (و), the first radical, from its مضارع (active) is dropped.

ضَرْبٌ يَضْرِبُ ← وَعَدٌ ← يُوْعَدُ ← يَعِدُ (وعدہ کرنا) to promise

فَتْحٌ يَفْتَحُ ← وَهَبٌ ← يُوْهَبُ ← يَهَبُ (عطا کرنا) grant

قاعدہ نمبر 2: مثال ولوی اگر باب "سَمِعٌ، كَرَّمَ" سے ہو تو اس کے مضارع معلوم میں "واو" (فاء کلمہ) برقرار رہتا ہے۔

If مثال ولوی is from سَمِعٌ، كَرَّمَ patterns then (و), the first radical, from its مضارع (active) is not dropped.

سَمِعٌ يَسْمَعُ ← وَجَلٌ ← يُوْجَلُ (ڈر لگنا) to be afraid of

كَرَّمَ يَكْرُمُ ← وَحْدٌ ← يُوْحَدُ (اکیلا ہونا) to be alone

استثناء (Exception)

باب سَمِعَ کے دو افعال خلاف قاعدہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو نوٹ کر لیں۔

Two of the verbs from سَمِعَ pattern are used against the above rule.

to be vast (وسیع ہونا) يَسْعُ ← يُوْسِعُ ← وَسِعَ

to trample (روندنا) يَطُؤُ ← يَطُوْطُ ← وَطِئَ

مثال واوی فعل امر

مثال واوی سے امر بنانے کا طریقہ بالکل صحیح فعل کی طرح ہے۔ علامت مضارع گرا کر لام کلمہ ساکن کر دیں گے۔

مضارع from امر is formed in the same way as that of a صحيح فعل. Make لام (third radical) ساکن after chopping off the sign of مضارع.

(You put!) (تورکھ) صَعُ ← تَصْعُ ← وَصَعُ

(You promise!) (تو وعدہ کر) عَدُ ← يَعِدُ ← وَعَدُ

خلاصہ

مثال واوی اگر باب "صَرَبَ، حَسِبَ" سے ہو تو مضارع معلوم میں "واو" حذف ہو جائے گا۔

اگر باب "سَمِعَ یا كَرَّمَ" سے ہو تو حذف نہیں ہوگا۔

لیکن اگر باب "سَمِعَ يَسْمَعُ یا فَتَحَ يَفْتَحُ" سے ہو مگر عین یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہو تو بھی "واو" حذف ہو جائے گا۔

Summary: -If from صَرَبَ حَسِبَ patterns then in مضارع (active) the و is dropped.

-If from سَمِعَ كَرَّمَ patterns then it is not dropped.

-If it is from pattern فَتَحَ يَفْتَحُ or سَمِعَ يَسْمَعُ and the second or the third radical is a حرف حلقی then it is dropped.

Note: In مضارع (passive), the dropped و comes back.

(Keep the window of Exceptions) (استثناء کی کھڑکی کھلی رکھیں)